

# 25th Meeting of the Working Mechanism for Consultation & Coordination on India-China Border Affairs

October 14, 2022

بھارت - چین سرحدی امور پر مشاورت اور رابطہ کیلئے ورکنگ میکانزم کی 25ویں میٹنگ

14 اکتوبر، 2022

بھارت- چین سرحدی امور پر مشاورت اور رابطے کیلئے ورکنگ میکانزم (ڈبلیو ایم سی سی) کی 25ویں میٹنگ 14 اکتوبر، 2022 کو منعقد ہوئی۔ ہندوستانی وفد کی قیادت وزارت خارجہ کے ایڈیشنل سکرپٹری (مشرقی ایشیاء) نے کی، جبکہ چینی وفد کی قیادت چینی وزارت خارجہ کے ما تحت ہاؤنڈری اور سمندری امور شعبہ کے ڈائریکٹر جنرل نے کی۔

2. دونوں فریقوں نے ہندوستان- چین سرحدی علاقوں کے مغربی سیکٹر میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر صورتحال کا جائزہ لیا۔ مئی 2022 میں ڈبلیو ایم سی سی کی آخری میٹنگ کے بعد کی پیشرفت کو یاد کرتے ہوئے، انہوں نے گوگرہ- ہاٹ اسپرنگس (پی پی- 15) کے علاقے میں پیچھے ہٹنے کا خیرمقدم کیا جو 8-12 ستمبر 2022 کے درمیان مرحلہ وار، مربوط اور تصدیق شدہ طریقے سے انجام دیا گیا تھا۔ انہوں نے اس بات کو نوٹ کیا کہ یہ اقدامات بھارتی وزیر خارجہ اور چینی ریاستی کونسلر اور وزیر خارجہ کے درمیان مفاہمت کی عکاسی کرتے ہیں، جس میں جولائی 2022 میں ہالی میں ان کی حالیہ میٹنگ میں ہونے والی مفاہمت کی عکاسی کرتے ہیں۔

3. دونوں فریقوں نے ایل اے سی پر باقی ماندہ مسائل کو جلد از جلد حل کرنے کے لیے سفارتی اور فوجی ذرائع سے بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق کیا تاکہ دو طرفہ تعلقات میں معمول کی بحالی کے لیے حالات پیدا کیے جا سکیں۔

4. موجودہ دوطرفہ معاہدوں اور پروٹوکول کے مطابق مغربی سیکٹر میں ایل اے سی پر باقی ماندہ مسائل کے حل کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، انہوں نے سینئر کمانڈرز کی میٹنگ کا اگلا (17 واں) دور جلد منعقد کرنے پر اتفاق کیا۔

نی دہلی

14 اکتوبر، 2022

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA's website and may be referred to as the official press release.